

# اہل بزرگوں کے لیے دانتوں کی مفت روٹین دیکھ بھال

- انیسٹھیزیا
- انفیکشن اور درد کا علاج کے لیے اینڈوڈونک خدمات
- مسوڑوں کی کیفیات اور بیماریوں کے علاج کے لیے وقتاً فوقتاً خدمات

## ڈینچرز کے بارے میں کیا ہے؟

ڈینچر کے بشمول پروستھوڈونٹک خدمات کا جزوی طور پر احاطہ کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی اپنے مقامی پبلک ہیلتھ یونٹ سے بات کریں۔

## میں کس طرح درخواست دوں؟

اونٹاریو سینئرز ڈینٹل کیئر پروگرام کے لیے درخواست دینے کے لیے بہت سے اختیارات دستیاب ہیں:

• [ontario.ca/SeniorsDental](http://ontario.ca/SeniorsDental) پر آن لائن درخواست دیں

- اپنی درخواست پرنٹ کریں، پُر کریں اور ای میل کریں
- درخواست فارم لینے کے لیے اپنے مقامی پبلک ہیلتھ یونٹ یا شرکت کنندہ سی ایچ سی (CHC) یا اے ایچ اے سی (AHAC) سے ملیں اور/یا اپنی درخواست مکمل کرنے میں مدد حاصل کریں۔

## اگر مجھے منظور کر لیا گیا تو کیا ہوگا؟

ایک بار جب آپ کی درخواست منظور ہو جائے تو آپ کو استقبالیہ پیکیج اور ڈینٹل کارڈ بھیجا جائے گا۔ خدمات موصول کرنے کے لیے پبلک ہیلتھ یونٹ، کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، یا خدمات فراہم کرنے والے ابوریجنل ہیلتھ ایکسس سینٹرز کے سامنے اس کارڈ کو پیش کریں۔

ہر سال پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کی اہلیت کے بارے میں یا اگر ضرورت ہو تو پروگرام میں دوبارہ درخواست کس طرح دیں آپ کو مطلع کیا جائے گا۔

## اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہے؟

416-916-0204 پر کال کریں

ٹال فری 1-833-207-4435

ٹی ٹی وائی 1-800-855-0511

اونٹاریو سینئرز ڈینٹل کیئر پروگرام ان تمام بزرگ افراد کو دانتوں کی اعلیٰ دیکھ بھال فراہم کرتا ہے جو اہل ہیں۔

## کون اہل ہے؟

آپ اہل ہو سکتے ہیں اگر آپ :

- 65 یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں
- اونٹاریو کے رہائشی ہیں
- تنہا ایک شخص کی سالانہ خالص آمدنی \$22,200 یا اس سے کم یا ایک جوڑے کی مشترکہ خالص آمدنی \$37,100 یا اس سے کم ہے
- دانتوں کے فوائد کی کسی بھی دوسری شکل تک رسائی نہیں ہے (جیسے، نجی انشورنس یا دوسرے سرکاری پروگرام)

## مجھے دانتوں کی دیکھ بھال کہاں سے مل سکتی ہے؟

دانتوں کی دیکھ بھال کی خدمات عوامی صحت کے یونٹس اور شرکت کنندہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز (سی ایچ سی)، ابوریجنل ہیلتھ ایکسس سینٹرز (اے ایچ اے سی) کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں میں موبائل ڈینٹل کلینک کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں۔

## کن خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے؟

- معائنے اور تشخیصات
- احتیاطی خدمات
- ٹوٹے ہوئے دانت اور کیویٹیز کی مرمت کے لیے بحالی کی خدمات
- ایکسرے
- دانتوں یا خلاف معمول ٹشوز کو ہٹانے کے لیے اورل سرجری